

## 112173 - چوپائے سے بدکاری کرنے والے کو تعزیر لگائی جائیگی اور جانور قتل کر دیا جائیگا

### سوال

کیا کسی بکری کے ساتھ کوئٹھ شخص جنسی زیادتی کرے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اور کیا اس کا دودھ پینا جائز ہو گا؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جس چوپائے کے ساتھ لواطت کی گئی ہو اس جانور کو قتل کر دیا جائیگا، اور اس کا گوشت نہیں کھایا جائیگا، اور اگر وہ جنسی زیادتی کرنے والے شخص کی ملکیت ہو تو اس کی کوئی ضمان نہیں، لیکن اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہو تو اسے اس جانور کی ضمان اور قیمت بھی ادا کرنا ہوگی.

اور بدفعی کرنے شخص کو تعزیر لگائیگی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائیگا، کیونکہ اس میں درج ذیل حدیث وارد ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے.

عکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جسے تم کسی چوپائے کے ساتھ بدفعی کرتے ہوئے پاؤ تو اسے قتل کر دو، اور چوپایا بھی قتل کر دو "

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا گیا:

چوپائے کو قتل کیوں کیا جائیگا؟

تو انہوں نے فرمایا: اس سلسلہ میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ اس کا گوشت کھایا جائے، یا اس سے نفع اٹھایا جائے، اور اس سے ایسی بدفعی کی گئی ہو.

سنن ترمذی حدیث نمبر ( 1455 ) سنن ابو داود حدیث نمبر ( 4464 ) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ( 2564 ) اس حدیث کو

ابو داود اور طحاوی نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بعد کہا ہے: اور سفیان ثوری نے

عاصم سے اور انہوں نے ابو رزین سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے کہ:

" جو چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں "

ہمیں یہ محمد بن بشار نے عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ سفیان ثوری سے بیان کیا ہے، اور پہلی حدیث سے یہ زیادہ صحیح ہے، اور اہل علم کے ہاں عمل بھی اسی پر ہے، اور امام احمد اور اسحاق کا قول بھی یہی ہے۔

اور الموسوعة الفقهية میں درج ہے:

" جمہور فقہاء کا مسلک ہے کہ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پر کوئی حد نہیں، لیکن اس پر تعزیر لگائی جائیگی، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ:

جو چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں "

اور اس طرح کا قول توقیف سے ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس لیے کہ سلیم الطبع اس کا انکار کرتی ہیں، تو حد لگانے کی دلیل نہیں لی جا سکتی۔

اور شافعیہ کا قول ہے:

اسے زنا کی حد لگائی جائیگی، اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

اور شافعیہ کا ایک دوسرا قول یہ ہے:

اسے مطلقاً قتل کیا جائیگا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارہ۔

اور جمہور فقہاء ( احناف، مالکیہ، شافعیہ ) کا مسلک ہے کہ: چوپایا قتل نہیں کیا جائیگا، اور اگر قتل کر دیا جائے تو بغیر کسی کراہت کے کھانا جائز ہے، مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں اگر وہ کھائے جانے والے جانور میں سے ہو، اور ابو یوسف اور محمد نے اسے کھانے سے منع کیا ہے، ان کا کہنا ہے:

اسے ذبح کر کے جلا دیا جائیگا۔

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور احناف نے اس سے زندہ یا مردہ نفع لینے کی کراہت بیان کی ہے۔

اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ: چوپایا قتل کیا جائیگا چاہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہو یا کسی دوسرے کی، اور چاہے کھایا جانے والا ہو یا نہ کھایا جانے والا۔

شافعیہ کے ہاں بھی یہی قول ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے:

" جو چوپائے سے بدفعلی کرے اسے قتل کر دو، اور چوپایا بھی قتل کر دو "

اور شافعیہ کے ہاں ایک اور قول بھی ہے:

اگر کھایا جانے والا ہو تو اسے ذبح کیا جائیگا، اور اگر کھائے جانے والی جنس میں سے ہو تو انہوں نے اسے کھانے کی حرمت صراحت سے بیان کی ہے "

دیکھیں: الموسوعة الفقهية ( 24 / 33 ).

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اور اگر انسان کسی چوپائے سے بدفعلی کرے تو اسے تعزیر لگائی جائیگی، اور جانور قتل کر دیا جائیگا کیونکہ وہ حرام اور مردار ہے۔

اور اگر وہ جانور اس کی اپنی ملکیت ہو تو اس کا نقصان ہو گا، اور اگر کسی دوسرے کا ہو تو بدفعلی کرنے والا مالک کو اس کی قیمت ادا کریگا۔

اور ایک قول یہ بھی ہے:

جو چوپائے سے بدفعلی کرے اسے قتل کر دیا جائیگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" تم جسے چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پاؤ اسے قتل کر دو، اور چوپایا بھی قتل کر دو "

اور اس عموم سے اہل علم نے یہ اخذ کرتے ہوئے کہا ہے:

چوپائے کی فرج کسی بھی حالت میں حلال نہیں تو یہ لواطت کی طرح ہو گا۔

لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے جب اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ٹھہری تو وہ دو چیزوں میں سے ہلکی اور خفیف کی طرف مائل ہوئے، اور وہ چوپائے کا قتل ہے، لیکن آدمی کو قتل نہیں کیا جائیگا؛ کیونکہ اس کی حرمت زیادہ عظیم ہے، لیکن آدمی کو اس معصیت کی وجہ سے تعزیر لگائی جائیگی۔

اور عام قاعدہ اور اصول ہے کہ:

پر اس معصیت و نافرمانی میں تعزیر واجب ہے جس میں حد نہ ہو، اور نہ ہی کفارہ ہو " انتہی

ماخوذ از: الشرح الممتع ( 14 / 245 ).

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" چوپائے کو قتل کرنے کی علت میں فقہاء کا اختلاف ہے:

اس لیے قتل کیا جائیگا کہ وہ فاعل کے لیے عار کا باعث ہے، اور جب اسے دیکھے گا تو اسے فعل یا آئیگا.

ابن بطہ سے ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جسے تم چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پاؤ اسے قتل کر دو، اور چوپائے کو قتل کر دو.

لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے کا کیا قصور ہے ؟

تو انہوں نے فرمایا:

یہ اور یہ نہ کہا جائے "

اور یہ بھی کہا گیا ہے: تا کہ وہ بدصورت مخلوق نہ جنے.

اور ایک قول یہ بھی ہے: تا کہ کھایا نہ جائے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی علت بیان کرتے ہوئے اسی

طرح اشارہ کیا ہے " انتہی

دیکھیں: المغنی ابن قدامہ ( 9 / 60 ).

اس سے معلوم ہوا کہ بدفعلی کی گئی بکری کے دودھ سے فائدہ حاصل نہیں کیا جائیگا، اور نہ ہی اسے چھوڑا

جائیگا، بلکہ اسے قتل کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائیگا.

واللہ اعلم .